



سوال

(838) نبی کریم ﷺ کا تین دن نماز تراویح پڑھنا سنتِ مؤکدہ کہلانے کی یا غیر مؤکدہ؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح تین دن پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے نماز تراویح بہت التزام سے ادا کی جاتی رہی۔ اسے سنت مؤکدہ کہیں گے یا غیر مؤکدہ۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین روز نماز تراویح پڑھائی پھر فرضیت کے ڈر سے اس کو ترک کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے علت زائل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس عمل خیر کو شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد و ارادہ اور شوقِ تراویح سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی ادائیگی سنت مؤکدہ ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوة: صفحہ: 720

محدث فتویٰ